

برائے فوری اجراء

## سٹی آف برامپٹن موسم بہار اور موسم گرما کے لیے پارکس اور تفریحی سہولت گاہوں کے لیے ملازمین اور رضاکاران بھرتی کر رہا ہے

برامپٹن، آن (23 مارچ 2022) – سٹی آف برامپٹن کے پاس پارکوں اور تفریح گاہوں میں جزو وقتی ملازمتوں میں دلچسپی رکھنے والے افراد کے لیے اور پورے شہر میں رضاکارانہ کاموں کے لیے بہت سے دلچسپ مواقع دستیاب ہیں۔

### برامپٹن ریکریٹیشن

برامپٹن ریکریٹیشن کے پاس اس موسم بہار اور موسم گرما میں ایکواٹکس، کیمپس، کسٹمر سروس، سہولت گاہوں کے امور کے لیے اور مزید بہت سی آسامیاں خالی ہیں۔ کمیونٹی پر مبنی ماحول میں کام کرنے والی معاون ٹیم کے لیے کام کرنے سے لطف اندوز ہوں اور بہت سے فوائد بھی حاصل کریں جیسے لچکدار نظام الاوقات، بامعاوضہ تربیت، مہارت کی نشوونما اور ترقی کے مواقع، رعایتی رکنیت تک رسائی اور ایسا تجربہ حاصل کریں جو آپ کے ریزومے کو چار چاند لگا دے گا۔

دستیاب مواقع کے بارے میں مزید جانیں اور 9 اپریل کو آنے والے جاب فیئر میں سٹی کے عملے سے بات چیت کریں۔ تفصیلات اور درخواست دینے کے لیے [www.brampton.ca/rec-jobs](http://www.brampton.ca/rec-jobs) ملاحظہ کریں۔

### برامپٹن پارکس مینٹیننس اینڈ فاریسٹری

برامپٹن پارکس مینٹیننس اینڈ فاریسٹری کے پاس اس موسم بہار، موسم گرما اور موسم خزاں میں جنگلات، باغبانی، قبرستانوں، تعمیرات اور ضلعی دیکھ بھال میں مختلف اقسام کی جزو وقتی اور عارضی آسامیاں دستیاب ہیں۔

ایک معاون ٹیم کے ساتھ کام کریں، بیرونی ماحول سے لطف اندوز ہوں اور ایک سیزنل لیبرر، پارکس کیپر، گارڈنر، آرپورسٹ اور بہت کچھ کے طور پر اپنی صلاحیتوں کو شہر کی بہتری کے لیے استعمال میں لائیں۔ تفصیلات اور درخواست دینے کے لیے [www.brampton.ca/employment](http://www.brampton.ca/employment) ملاحظہ کریں۔

### رضاکارانہ مواقع

سٹی آف برامپٹن مختلف شعبوں کے لیے رضاکاروں کی تلاش کر رہا ہے، بشمول برامپٹن اینیمل سروسز، برامپٹن ایمرجنسی مینجمنٹ آفس، برامپٹن ریکریٹیشن، اور پرفارمنگ آرٹس۔ 14 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد [www.brampton.ca/volunteers](http://www.brampton.ca/volunteers) پر مزید جان سکتے ہیں اور درخواست دے سکتے ہیں۔

### اقتباسات

"برامپٹن ایک مواقع کا شہر ہے اور ہم اپنی کمیونٹی میں مزید ملازمتیں پیدا کرنے کے لیے پُر عزم ہیں۔ ہم نے 2022 کے موسم بہار اور موسم گرما میں پارکوں اور تفریحی مقامات پر کام کرنے کے لیے موزوں افراد کی بھرتی کی مہم شروع کی ہے اور اگر آپ کام یا رضاکارانہ خدمات تلاش کر رہے ہیں، تو میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ آپ ہمارے موجودہ مواقع کو براؤز کریں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن رہنے، کام کرنے اور کھیلنے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے۔ ہمارے پارکس یا تفریحی محکموں میں کام کرنے کے لیے ہماری معاون ٹیم کا حصہ بنیں، قیمتی مہارتیں اور تجربہ حاصل کریں اور ہمارے 2022 کے مواقع کے ذریعے شہر کے لیے ایک مفید کردار ادا کریں۔"

- رووینا سیٹھوس، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن

"ہمارے پاس موسم بہار اور موسم گرما کے لیے برامپٹن پارکس اینڈ ریکریٹیشن میں بہت سی خالی آسامیاں دستیاب ہیں۔ ہمارے پاس رضاکاروں کے لیے بھی مواقع موجود ہیں۔ ہمارے شہر کو صحت مندانہ، فعال اور محفوظ رکھنے میں مدد دینے کے لیے اور شہر میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے درخواست دیں۔"

- چارمین ولیمز، سٹی کونسلر وارڈز 7 اور 8؛ وائس چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن

"سٹی آف برامپٹن کے پاس ایک بہترین ٹیم موجود ہے جو متنوع اور تیزی سے ترقی کرنے والی کمیونٹی کی خدمت میں مصروف ہے۔ ہم اس موسم بہار اور موسم گرما اور سال بھر کے لیے کامیاب درخواست دہندگان کو ان کے کردار میں خوش آمدید کہنے کے منتظر ہیں۔"

- پال موریسن، انٹیرم CAO، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)